



## جبریل آئے اور انہوں نے میری امامت کرائی میں نے ان کے ساتھ نماز پڑھی، پھر ان کے ساتھ نماز پڑھی، پھر ان کے ساتھ نماز پڑھی، پھر ان کے ساتھ نماز پڑھی، پھر ان کے ساتھ نماز پڑھی

ابن شہاب سے روایت ہے کہ عمر بن عبد العزیز نے عصر میں کچھ تاخیر کر دی، تو عروہ نے ان سے کہا: کیا آپ کو معلوم نہیں کہ جبریل علیہ السلام نے آکر رسول اللہ کو نماز پڑھائی تھی؟ اس پر عمر بن عبد العزیز نے کہا: اے عروہ! جو تم کو کہے وہ اسے خوب سوچ سمجھ کر کہو، تو عروہ نے کہا: میں نے بشیر بن ابو مسعود رضی اللہ عنہ سے سنا ہے کہ وہ کہے تھے کہ میں نے ابو مسعود سے سنا ہے کہ میں نے رسول اللہ کو فرماتے ہوئے سنا ہے: ”جبریل نازل آئے اور انہوں نے میری امامت کرائی، میں نے ان کے ساتھ نماز پڑھی، پھر ان کے ساتھ نماز پڑھی، پھر ان کے ساتھ نماز پڑھی، پھر ان کے ساتھ نماز پڑھی، پھر ان کے ساتھ نماز پڑھی“ آپ اپنی انگلیوں پر پانچوں نمازوں کو گن رہے تھے۔

[صحیح] [متفق علیہ]

جبریل علیہ السلام وحی لے کر نبی کے پاس آتے تھے اور مختلف شکل و صورت میں آتے تھے۔ اس حدیث میں ہے کہ وہ اترے اور آپ کو پانچ وقتوں کی امامت کرائی تاکہ آپ کو نمازوں کے اوقات بتائیں۔ سیاق حدیث میں جو قصہ وارد ہوا ہے وہ یہ ہے: ایک مرتبہ عمر بن عبد العزیز نے عصر کی نماز کو اس کے وقت سے تھوڑا مؤخر کر دیا تو اس پر عروہ بن زبیر نے ان پر اعتراض کیا اور انہیں بتایا کہ ایک مرتبہ جبریل علیہ السلام آئے اور انہوں نے رسول اللہ کی امامت کرائی، اس پر عمر بن عبد العزیز کو تعجب ہوا اور انہوں نے عروہ کو حکم دیا کہ وہ اپنی کہی ہوئی بات پر غور کریں اور سوچ سمجھ کر کہیں اور وہ بات نہ کہیں جس کی دلیل نہ ہو، تو عروہ نے بتایا کہ انہوں نے بشیر بن ابو مسعود سے سنا ہے کہ وہ ابو مسعود بدری رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ سے سنا ہے کہ آپ نے بتایا کہ ایک مرتبہ جبریل نازل ہوئے اور پانچوں نمازوں کے اوقات میں آپ کی امامت کرائی۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ عروہ نے اس حدیث کو سنا اور نماز کی کیفیت اور اس کے اوقات وارکان کو جانا۔

<https://sunnah.global/hadeeth/ur/show/10421>



النجاة الخيرية  
ALNAJAT CHARITY

